

Key Fact Statement for Deposit Accounts

ڈپازٹ اکاؤنٹس کے لیے حقائق پر مبنی ضروری معلومات

Branch: _____: برانچ

City: _____: شہر

Date: (____ - ____ - ____): تاریخ

Accounts Types & Salient Features:

This Information is accurate as of the date above. Services fees and profit rates may change on Bi-annual/monthly basis. For updated fees/charges you may visit our website or visit our branches

اکاؤنٹ کی قسمیں اور اہم خصوصیات:

یہ معلومات درج بالا تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ سروسز، فیس اور منافع کی شرح میں ہر ماہانہ/ششماہی بنیاد پر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ فیس کی تبدیلیوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہماری برانچوں پر تشریف لائیں

ISLAMIC اسلامی												
Particulars کوائف		Current Account / Current Priority کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ پرائیوٹی	Regular Saving / Saving Plus / Saving Priority ریگولر سیونگ / سیونگ / اسپیئرل / سیونگ ان اکاؤنٹ	Freelancer Account فری لانسر اکاؤنٹ	Saving Special / Saving Enhanced سیونگ اسپیئرل / سیونگ ان پینسڈ	Senior Citizen Account (Current & Saving) سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ (کرنٹ اور سیونگ)	Johara Account (Current & Saving) جوہرہ اکاؤنٹ (کرنٹ اور سیونگ)	Itmnaan Account اطمینان اکاؤنٹ	Asaan Account (Current & Saving) آسان اکاؤنٹ (کرنٹ اور سیونگ)	Muaawin Account (Current & Saving) معاون اکاؤنٹ (کرنٹ اور سیونگ)	Normal Term Deposit نارمل ٹرم ڈپازٹ	Premium Term Deposit پریمیم ٹرم ڈپازٹ
Currency کرنسی		PKR, USD, GBP, Euro & AED پاکستانی روپے، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ پورو اور یو اے ای درہم	PKR, USD, GBP & Euro (Saving Plus only in PKR) پاکستانی روپے، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ اور پورو (سیونگ پلس صرف پاکستانی روپے میں)	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR, USD, GBP, Euro & AED پاکستانی روپے، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، پورو، اور یو اے ای درہم	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR, USD, GBP, Euro & AED پاکستانی روپے، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، پورو، اور یو اے ای درہم	PKR, USD, GBP, AED & EUR پاکستانی روپے، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ اور پورو، یو اے ای درہم	PKR پاکستانی روپے
Minimum Balance for Account (if any) اکاؤنٹ کے لیے کم از کم بیلنس (اگر کوئی ہو)	To Open اکاؤنٹ کھولنے کے لیے	PKR 1,000 or equivalent in other 1,000 روپے یا دیگر مساوی	PKR 1,000 FCY: PKR Equivalent 1,000 روپے غیر ملکی کرنسی: پاکستانی روپے کی مساوی	PKR 100 روپے 100	PKR 1,000 روپے 1,000	PKR 100 روپے 100	PKR 1,000 FCY: PKR Equivalent 1,000 روپے غیر ملکی کرنسی پاکستانی روپے کی مساوی	PKR 1,000 روپے 1,000	PKR 100 روپے 100	PKR 100 روپے 100	PKR 100,000 USD 2,000 100,000 روپے 2,000 ڈالر امریکی ڈالر	PKR 100,000 100,000 روپے
	To Keep اکاؤنٹ رکھنے کے لیے	Nil کچھ نہیں	Nil کچھ نہیں	Nil کچھ نہیں	Nil کچھ نہیں	Nil کچھ نہیں	Nil کچھ نہیں	Nil (100,000 average balance for free services) کچھ نہیں 100,000 ایوریج بیلنس مفت سروسز کے لیے	Nil کچھ نہیں	Nil کچھ نہیں	Not Applicable نقائیل اطلاق	
Account Maintenance (Fee If Any) اکاؤنٹ مینٹننس فیس (اگر کوئی ہو)		کچھ نہیں Nil										
Is Profit Paid on Account (Yes / No) Subject to the applicable tax rate کیا اکاؤنٹ پر منافع ملتا ہے (ہاں/نہیں) قابل اطلاق ٹیکس شرح سے مشروط		No نہیں	Yes ہاں	No نہیں	Yes ہاں	Yes (Only on Saving Account) ہاں (صرف سیونگ اکاؤنٹ پر)	Yes (Only on Saving Account) ہاں (صرف سیونگ اکاؤنٹ پر)	Yes ہاں	Yes (Only on Saving Account) ہاں (صرف سیونگ اکاؤنٹ پر)	Yes (Only on Saving Account) ہاں (صرف سیونگ اکاؤنٹ پر)	Yes ہاں	Yes ہاں
Indicative Profit Rate. (%) (%)متوقع منافع		NA نقائیل اطلاق	6.23%	NA نقائیل اطلاق	6.23%	6.75% to 7.25%	6.50% to 7.00%	0.04%	7.00% to 7.25%	6.75% to 7.25%	Profit Rate vary as per Tenor, Profit Payment frequency, Amount	
Profit Payment Frequency Monthly, Quarterly, Half Yearly and Yearly) منافع کی ادائیگی (ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)		NA نقائیل اطلاق	Monthly ماہانہ	NA نقائیل اطلاق	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Half Yearly ششماہی	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Multiple options Available مختلف اختیارات دستیاب	Monthly & Maturity Option ماہانہ اور مابانہ پر
Provide Example: (On Each Rs. 1,000, you can earn Rs. ---- - on given periodicity) مثال دیں (ہر 1000 روپے پر، آپ حاصل کرسکتے ہیںمذکورہ دورانیہ کے مطابق)		NA نقائیل اطلاق	5.19	NA نقائیل اطلاق	5.19	5.62 to 6.04	5.41 to 5.83	0.03	5.83 to 6.04	5.62 to 6.04	TD Balance * applicable rate / 365* no. of days in month (has to be calculated each month based on declared rates)	
Premature / Early Encashment Fee (If Any) میچورٹی سے قبل/قبل از وقت نقد وصولی کی فیس (اگر کوئی ہو)		NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	NA نقائیل اطلاق	Last Crossed tenor rate is applicable. For ex. 1 Year TD encashed after 4 months will receive 3 Month rate آخری مکمل دورانیہ کی شرح کا اطلاق ہوگا۔ مثال کے طور پر: ایک سال کے معاہدے پر اگر 4 مہینے بعد نقد وصول کیا جائے گا تو گزشتہ 3 مہینے کی شرح لاگو ہوگی	
* Last declared rates (April 2025) of relevant product Service Charges: IMPORTANT: This is a List of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find a full list at our branches, on our website at https://www.dibpak.com/index.php/services/schedule-of-charges/. Please not that all bank charges are exclusive of applicable taxes.						سروس چارجز ضروری: اس فہرست میں اکاؤنٹ کے لیے اہم سروس چارجز شامل ہیں۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں۔ آپ کو مکمل فہرست ہماری برانچز، ہماری ویب سائٹ، https://www.dibpak.com/index.php/services/schedule-of-charges/ پر مل سکتی ہے۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں						
Services سروسز												
Cash Transaction* کیش ٹرانزیکشن	Intercity شہروں کے درمیان	Zero / Nil صفر / کچھ ہی نہیں										NA نقائیل اطلاق
	Intra-city شہر کے اندر											
	Own ATM Withdrawal اے ٹی ایم اپنے											
	Other Bank ATM دیگر بینکوں کا اے ٹی ایم	Rs. 23.66/- روپے -23.66										
SMS Alerts* ایس ایم ایس الرٹس	ADC / Digital ای ڈی سی / ڈیجیٹل	Zero / Nil صفر / کچھ ہی نہیں										
	Clearing کلیرنگ	Rs. 175/Month or Rs. 2,100/Year 175 روپے ماہانہ یا 2,100 سالانہ				Zero صفر	Rs. 175/Month or Rs. 2,100/Year	Free (subject to required balance maintenance) مفت (مطلوبہ بیلنس برقرار	Rs. 175/Month or Rs. 2,100/Year 175 روپے ماہانہ	Zero صفر		
	For other transactions											

	دیگر ٹرانزیکشنز کے لیے						175 روپے ماہانہ یا 2۰100 سالانہ	رکھنے سے (مشروط)	یا 2۰100 سالانہ			
Debit Cards (Annual Charges)* ڈیبٹ کارڈز	UPI Silver یو پی آئی سلور	Rs. 1,700/- روپے 1,700	Rs. 1,700/- روپے 1۰700	Rs. 1,700/- روپے ۱۰700	Rs. 1,700/- روپے ۱۰700	Free First Issuance پہلی اجراء مفت	Rs. 1,700/- روپے 1۰700	Free (subject to required balance maintenance) مفت (مطلوبہ بیلنس برقرار رکھنے سے مشروط)	Rs. 1,700/- روپے 1۰700	Free مفت	NA نقائیل اطلاق	
	UPI Gold یو پی آئی گولڈ	Rs. 2,000/- روپے 2,000/-	Rs. 2,000/- روپے 2,000/-	Rs. 2,000/- روپے 2,000/-	Rs. 2,000/- روپے 2,000/-	Rs. 2,000/- 2,000/- روپے	Rs. 2,000/- روپے 2,000/-	Rs. 2,000/- روپے 2,000/-	Rs. 2,000/- 2,000/- روپے	Rs. 2,000/- 2,000/- روپے		
	VISA Aayan	Rs. 4,000/- روپے 4۰000	Rs. 4,000/- روپے 4۰000	Rs. 4,000/- روپے 4۰000	Rs. 4,000/- روپے 4۰000	Rs. 4,000/- 4۰00 روپے	Rs. 4,000/- روپے 4۰000	Rs. 4,000/- روپے 4۰000	Rs. 4,000/- 4۰00 روپے	Rs. 4,000/- 4۰00 روپے		
	VISA Signature	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000	Rs. 18,000/- روپے 18۰000		
	PayPak	Rs. 1200/- (Rs. 750/- on Assan Account) 750 اسان اکاؤنٹ)								Free مفت		
Cheque Book* چیک بک	Issuance اجراء	Rs. 20 per leaf, USD 1.7, AED 5.5, EURO 1.3, GBP 1.1 20 روپے فی چیک، 1.7 امریکی ڈالر، 5.5 یو اے ای دریم، 1.3 یورو، 1.1 برطانوی پاؤنڈ				Free مفت		Free (subject to required balance maintenance) مفت (مطلوبہ بیلنس برقرار رکھنے سے مشروط)	Rs. 16 per leaf 15 روپے فی چیک	Free مفت	NA نقائیل اطلاق	
	Stop Payment اسٹاپ پیے منٹ	Rs. 600/- 600 روپے										
	Loose Cheque کھلے چیک	NA نقائیل اطلاق										

Remittance (Local)* زر ترسیلات (مقامی)	Banker Cheque / Pay Order بینکر چیک لیے آرڈر	Rs. 300/- 300 روپے	Free (subject to required balance maintenance)) مفت (مطلوبہ بیلنس برقرار رکھنے کی شرط پر)	Rs. 150/- 150 روپے	Rs. 300/- 300 روپے	
Remittance (Foreign)* ریمیٹینس (غیر ملکی)	Foreign Demand Draft فارن ڈیمانڈ ڈرافٹ	0.1% min \$15, max \$25 0.1% , کم از کم 15 امریکی ڈالر زیادہ سے زیادہ 25 امریکی ڈالر		NA نقائیل اطلاق	0.1% min \$15, max \$25 امریکی ڈالر 25 ، امریکی ڈالر 15% ، 0.1% کم از کم	NA نقائیل اطلاق
	Wire Transfer وائر ٹرانسفر	\$30 OR equivalent plus swift charges 30 امریکی ڈالرز یا مساوی بمع سونفٹ چارجز		NA نقائیل اطلاق	\$30 OR equivalent plus swift charges 30 امریکی ڈالرز یا مساوی بمع سونفٹ چارجز	
Statement of Account* (printable) اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	سالانہ Annual	Rs. 35/- Per Statement (Inclusive of FED) 35 روپے فی اسٹیٹمنٹ (ایف ای ڈی شامل ہوگا)				NA نقائیل اطلاق
	ششماہی Half Yearly					
	Duplicate ڈپلیکیٹ	Rs. 35/- Per Statement (Inclusive of FED) 35 روپے فی اسٹیٹمنٹ (ایف ای ڈی شامل ہوگا)				Rs. 35/- per statement (inclusive of FED) 35 روپے فی اسٹیٹمنٹ (ایف ای ڈی شامل ہوگا)
Fund Transfer فنڈز ٹرانسفر	ADC/Digital Channels اے ڈی سی /ڈیجیٹل چینلز	Zero / Nil صفر / کچھ نہیں				
	دیگر Others					
Digital Banking ڈیجیٹل بینکنگ	Internet Banking subscription (one time & annual) انٹرنیٹ بینکنگ سبسکرپشن (ای کا مرتبہ اور سالانہ	Zero / Nil صفر / کچھ نہیں				
	Mobile Banking subscription (one time & annual) انٹرنیٹ بینکنگ سبسکرپشن (ای کا مرتبہ اور سالانہ					
Clearing* کلیرنگ	Normal عمومی	Nil / Zero for PKR and \$5 or equivalent for FCY کچھ نہیں / صفر برائے پاکستانی برائے اور 5 امریکی ڈالرز یا مساوی برائے غیر ملکی کرنسی		Free (subject to required balance maintenanc e) مفت (مطلوبہ بیلنس برقرار رکھنے کی شرط پر)	Nil / Zero for PKR and \$5 or equivalent for FCY کچھ نہیں / صفر برائے پاکستانی روپے اور 5 امریکی ڈالرز یا مساوی برائے غیر ملکی کرنسی	NA نقائیل اطلاق
	Intercity انٹرسیٹی	Rs. 100/- (where NIFT is available), Rs. 300/- OBC Clearing (where NIFT is not available) 100 روپے (جہاں NIFT دستیاب ہے) ، 300 روپے او بی سی کلیرنگ (جہاں NIFT دستیاب نہیں)		Free (subject to required balance maintenanc e) مفت (مطلوبہ بیلنس برقرار رکھنے کی شرط پر)	Rs. 100/- (where NIFT is available), Rs. 300/- OBC Clearing (Where NIFT is not available) 100 NIFT روپے (جہاں او بی سی ، 300 دستیاب NIFT ہے) جہاں (سی) کلیرنگ دستیاب نہیں)	

	Same Day اسی دن	Rs. 500/- روپے 500	
Closure of Account اکاؤنٹ بند کرنا	Customer Request کسٹمر کی درخواست	Rs.200/-or available balance whichever is lower (NIL for BBA, Asaan and Saving Accounts, Asaan Remittance and Pensioner Accounts. Student/Zakat Mustahkeen/Govt and Semi Govt employees are exempted from account closing charges. 200 روپے یا دستیاب پیئنس جو بھی کم ہو (NIL) بی بی اے، آسان، آسان ترسیلات اور پنشنرز اکاؤنٹس کے لیے)طالب علم ازکوۃ مستحقین / سرکاری ملازمین کو اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز سے استثنی حاصل ہے۔	
*Free Services on Ayaan Customer Category - Free Cheque Book Issuance, Ayaan Debit Card, Pay Orders and Statements of Account upon balance maintenance of PKR 250k or 1Mn overall monthly average balance (For Individual Accounts) or PKR 1M Checking Monthly Average Balance (Tier 1) or PKR 10M Checking Monthly Average Balance (Tier 2) for Entity Accounts *Free services on Signature Customer Category – Free Cheque Book Issuance, Stop Payment of cheque, DD/MT's & TT, Pay Orders, Statement of Account, SMS alerts, Debit Cards, IBFT and much more upon balance maintenance of PKR 3M checking / 6M overall monthly average balance (SIGNATURE/CORPORATEP), \$ 20,000 remittance mandatory (ROSHANP), PKR 1M checking/3m overall monthly average balance (NRPP) Note: Ayann or Signature Categories can be marked on both Current and Saving Accounts			
You Must Know آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے			
Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and bank's internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details.		اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ضروریات : اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ضابطے کی ہدایات اور بینک کی پالیسیز کے مطابق شناخت سے متعلق کچھ مطلوبہ ضروریات کو پورا کرنا ہوگااس میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا ہوگی ۔ ایسی معلومات وقتاً فوقتاً بھی حاصل کی جا سکتی ہے ۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں ۔	
Cheque Bounce: Dishonouring of cheques is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence.		چیک باؤنس : چیک کی واپسی پاکستان میں ایک جرم کے زمرے میں آتی ہے ۔ اسی طرح آپ کو چیک لکھتے وقت انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔	
Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, Cheques, e-banking usernames, passwords, other personal information, etc. is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. The Bank will never contact you via phone, e-mail or any other means asking for your personal information, PINs, OTPs, User ID, password or ATM/Debit card number.		محفوظ تحویل: آپ کے اکاؤنٹ کے آلات تک رسائی والے عناصر جیسا کہ اے ٹی ایم کارڈز، پین کوڈز، چیکس، ای بینکنگ یوزر نیم، پاس ورڈس، دیگر ذاتی معلومات وغیرہ، کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسٹمر کی جانب سے کسی بھی لا پرواہی کی ذمہ داری بینک پر عائد نہیں ہوگی۔ بینک کبھی بھی آپ سے فون، ای میل، یا کسی دیگر ذرائع سے ذاتی معلومات، پین کوڈ، اوٹی پیز، یوزر آئی ڈی، پاس ورڈ یا اے ٹی ایم لائیوٹ کارڈ نمبر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔	
Record updation: Always keep pro les/records updated with the bank to avoid missing any significant communication. Please contact your home branch to update your information.		ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنا : ہمیشہ بینک میں اپنے ریکارڈز /پروفائل کو اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ ہم رابطے سے محروم نہ ہوں۔ برائے مہربانی اپنی معلومات اپنا ڈیٹ کرنے کے لیے اپنی برانچ سے رابطہ کریں۔	
What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be treated as dormant. If your account becomes dormant, the Bank will refuse to debit the Account, including cheques and payment orders or any other negotiable instruments. To reactivate your account, please visit your home branch.		اگر آپ لمبے عرصے تک یہ اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے ؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 مہینے تک غیر فعال رہتا ہے تو اس کو ڈورمنٹ قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ میں جاتا ہے تو بینک، اس میں سے ڈیبٹ سے انکار کر دیتا ہے، جس میں چیکس اور بے منٹ آرڈر یا دیگر دستاویزات شامل ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال بنانے کیلئے برائے مہربانی اپنی برانچ پر تشریف لائیں۔	
Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last ten years, except deposits in the name of a minor or a government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact your branch.		لاوارث ڈپازٹس: بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، 1962 کے سیکشن 31کی روشنی میں، کسی کم سن بچے کے نام پر ڈپازٹس یا سرکاری، عدالتی ڈپازٹس کے علاوہ ایسے تمام ڈپازٹس جو گزشتہ دس سال کے دوران فعال نہیں رہے تو انہیں قانونی ضابطے پورے کرنے کے بعد متعلقہ بینکس سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے حق میں دستبردار کر دیا جائے گا۔ دستبردار کیے جانے والے ڈپازٹس کے لیے متعلقہ بینک کے ذریعے دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی اپنی برانچ سے رابطہ کریں۔	
Closing this account: In order to close your account, please submit your debit/ATM card & Cheque book to your home branch and fill account closure request form.		اس اکاؤنٹ کو بند کرنا : اپنے اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے برائے مہربانی اپنا ڈیبٹ / اے ٹی ایم کارڈ اور چیک بک اپنی برانچ میں جمع کرائیں، اور اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پُر کریں۔	
How can you get assistance or make a complaint? Dubai Islamic Bank Pakistan LTD. 3rd Floor Karim Chambers, CL-5,6/2 Civil Lines, Karachi, Pakistan. Helpline: 111-786-342 Email: Problem.Resolution@dibpak.com Website: https://www.dibpak.com/index.php/services/problem-resolution-unit/		آپ مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا شکایات کس طرح درج کر سکتے ہیں؟ دہنی اسلامک بینک پاکستان لمیٹڈ، تیسری منزل کریم چیمبرز، سی ایل 5-6، 6/2 سول لائنز، کراچی، پاکستان ہیلپ لائن : 111-7876-342، ای میل : Problem.Resolution@dibpak.com ویب سائٹ: https://www.dibpak.com/index.php/services/problem-resolution-unit/	
If you are not satisfied ed with our response, you may contact: www.bankingmohtasib.gov.pk. info@bankingmohtasib.gov.pk		اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں: www.bankingmohtasib.gov.pk.info@bankingmohtasib.gov.pk	
I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT میں اس اہم حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ کی وصولی کی تصدیق کرتا / کرتی ہوں اور سمجھتا / سمجھتی ہوں۔			
Customer Name: کسٹمر کا نام:		Date: تاریخ:	
Product Chosen: منتخب شدہ پروڈکٹ			
Mandate of Account: اکاؤنٹ کا مینڈیٹ		انفرادی /اجتماعی/فریق اول یا فریق ثان Single / Joint / Either or Survivor	
Address: ایڈریس			
Contact No. رابطہ نمبر:	Mobile No. موبائل نمبر:	Email Address: ای میل ایڈریس	
Customer Signature: کسٹمر کے دستخط		Signature Verified: دستخط کی تصدیق	